

# Gen

## Chapter 9

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת- اور-برکت-دی خدا-نے H1288	אֶת- کو H0853	זָח نوح H5146	וְאֶת- اور-کو H0853	בְּנָיו بیٹوں-اُس-کے H0559	וַיִּאמֶר اور-کہا H0559	לָהֶם اُن-سے H0559	פָּרוּ پھلو H6509	וַרְבוּ اور-بڑھو H4390	וּמְלֵאוּ اور-بھرو H4390
	אֶת- کو H0853	הָאָרֶץ: زمین H0776								

جائے۔ پھر سے تم دنیا جاؤ۔ بڑھتے میں تعداد اور پھلو ۱ پھلو کہا، کر دے برکت کو بیٹوں کے اُس اور نوح نے اللہ پھر

2	וּמוֹרָאֵכֶם اور-خوف-تمہارا H1961	וְחַתְכֶם اور-دبشت-تمہاری H1961	יְהִיָּה بو-گی H1961	עַל پر H3605	כָּל- سب H3605	חַיֹּת جانوروں H0776	הָאָרֶץ زمین-کے H0776	וְעַל اور-پر H3605	כָּל- سب H3605	עֹרֹת پرنڈوں H5775
	הַשָּׁמַיִם آسمان-کے H8064	כָּל־ سب-میں H3605	אֲשֶׁר جو H7430	תִּרְמָשׁ رینگتا H7430	הָאָרֶמְזָה زمین H0127	וּבְכָל- اور-سب H3605	דְּגָיִם مچھلیوں H1709	תַּיִם سمندر-کی H3220	בְּיַדְכֶם ہاتھ-تمہارے-میں H3027	נְתַנּוּ: دیے-گئے H5414

ہے۔ گیا دیا کر میں اختیار تمہارے انہیں گے۔ ڈریں سے تم سب مچھلیاں اور پرندے جانور، والے رینگنے اور پھرنے پر زمین

3	כָּל- سب H3605	רִמְשׁוֹ رینگنے-والے H7431	אֲשֶׁר جو H1931	הוּא- وہ H1931	חַי زندہ H1961	לָכֶם تمہارے-لیے H1961	יְהִיָּה ہوں-گے H1961	לְאֻכְלָהָ کھانے-کو H0402	כִּי־ جیسے-سبزی H3418	עֵשֶׂב گھاس H6212	נְתַתִּי دیا-میں-نے H5414
	לָכֶם تمہیں H0853	אֶת- کو H0853	כָּל: سب H3605								

ہے۔ بھی اجازت کی کھانے جانور کے قسم ہر تمہیں سے اب طرح اسی ہے کی مقرر پیداوار کی پودوں لے کے کھانے تمہارے نے میں طرح جس

4	אֶדְ- مگر H0389	בְּשָׂר گوشت H1320	גַּן- جان-اُس-کی-ساتھ H5315	דָּמוֹ خون-اُس-کا H1818	לֹא نہیں H3808	תֹּאכְלוּ: کھانا H0398
---	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------

ہے۔ جان کی اُس میں خون کیونکہ ہے، خون میں کھانا جس نہ گوشت ایسا خبردار! لیکن

5	וְאֵד- اور-بیشک H0389	אֶת- کو H0853	דָּמְכֶם خون-تمہارا H1818	לְנַפְשֵׁיכֶם جانور-تمہاری-کے-لیے H5315	אֲדָשׁ مانگوں-گا H1875	מִיַּד ہاتھ-سے H3027	כָּל- ہر H3605	חַיָּה جانور H1875	אֲדָשׁ مانگوں-گا-اُسے H1875
	וּמִיַּד اور-ہاتھ-سے H3027	הָאָדָם آدمی H0120	מִיַּד ہاتھ-سے H3027	אִישׁ آدمی H0376	אֲחִיו بھائی-اُس-کے H0251	אֲדָשׁ مانگوں-گا H1875	אֶת- کو H0853	נַפְשׁוֹ جان H5315	הָאָדָם: آدمی-کی H0120

گا۔ کروں مطالبہ کا اِس خود میں حیوان۔ یا ہو انسان وہ خواہ گی، پڑے دینی جان اپنی اُسے گا کرے ایسا جو ہے۔ منع لینا جان کی کسی

6	שָׁפוֹךְ	דָּם	הָאָדָם	בָּאָדָם	דָּמוֹ	יִשְׁפָּךְ	כִּי	בְּצִלָּם	אֱלֹהִים	עָשָׂה	אֶת-
	بہانے والا	خون	آدمی کا	آدمی سے	خون-اُس کا	بہایا-جائے گا	کیونکہ	صورت-میں	خدا-کی	بنایا	کو
	<a href="#">H8210</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H8210</a>		<a href="#">H6754</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H0853</a>

הָאָדָם:  
آدمی  
[H0120](#)

یہ بنایا پر صورت اپنی کو انسان نے اللہ کیونکہ گا۔ جائے بہایا بھی خون کا اُس بہائے خون کا کسی بھی جو

7	וְאֵתָם	פָּרוּ	וּרְבוּ	שָׂרְצוּ	בָּאָרֶץ	וּרְבוּ-	בָּהָ:	ס
	اور-تم	پھلو	اور-بڑھو	بھیلو	زمین-میں	اور-بڑھو	اُس-میں	-
	<a href="#">H6509</a>		<a href="#">H8317</a>	<a href="#">H0776</a>				

جاؤ۔ پھیل میں دنیا جاؤ۔ بڑھتے میں تعداد اور پھولو پھلو اب

8	וַיֹּאמֶר	אֱלֹהִים	אֶל-	נֹחַ	וְאֶל-	בָּנָיו	אֵתוֹ	לֵאמֹר:
	اور-کہا	خدا-نے	سے	نوح	اور-سے	بیٹوں-اُس کے	اُس کے-ساتھ	کہتے-ہوئے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5146</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0559</a>

کہا، سے بیٹوں کے اُس اور نوح نے اللہ تب

9	וַאֲנִי	הִנְנִי	מְקִים	אֶת-	בְּרִיתִי	אִתְּכֶם	וְאֵת-	אֲחֵרֵיכֶם:
	اور-میں	دیکھو-میں	قائم-کرتا-ہوں	کو	عہد-اپنا	تمہارے-ساتھ	اور-کو	بعد-تمہارے
	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H2009</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2233</a>

ہوں۔ کرتا قائم عہد ساتھ کے اولاد تمہاری اور تمہارے میں اب

10	וְאֵת	כָּל-	נַפְשׁ	הַחַיָּה	אֲשֶׁר	אִתְּכֶם	בְּעֹרֹף	בְּבַהֲמָה	וּבְכָל-	חַיַּת	הָאָרֶץ
	اور-کو	ہر	جان	جاندار	جو	تمہارے-ساتھ	پرنڈوں-میں	موبیشیوں-میں	اور-سب	جانوروں	زمین-کے
	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5315</a>			<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H5775</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0776</a>

تمہارے-ساتھ	سب-سے	نکلنے-والے	کشتی	لے-لیے	سب-کے-لیے	جانوروں	زمین-کے
<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H8392</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0776</a>

ساتھ کے جانوروں تمام کے پر زمین اور موبیشیوں پرندوں، یعنی ہیں نکلے سے میں کشتی جو گا ہو بھی ساتھ کے جانوروں تمام اُن عہد یہ

11	וְהַקִּמְתִּי	אֶת-	בְּרִיתִי	אִתְּכֶם	וְלֹא-	יִכָּרֵת	כָּל-	בְּשָׂר	עוֹד	מִמִּי
	اور-قائم-کروں-گا	کو	عہد-اپنا	تمہارے-ساتھ	اور-نہیں	کانا-جائے-گا	سب	جسم	پھر	پانی-سے
	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H4325</a>

ہمبولڈ	اور-نہیں	بو-گا	پھر	طوفان	تباہ-کرنے-کو	زمین
<a href="#">H3999</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H3999</a>	<a href="#">H7843</a>	<a href="#">H0776</a>

ایسا سے اب گی۔ جائے دی کر ختم سے سیلاب زندگی تمام کی زمین کہ گا ہو نہیں کبھی ایسا سے اب کہ ہوں کرتا وعدہ کر باندھ ساتھ تمہارے میں دے۔ کر تباہ کو زمین پوری جو گا آئے نہیں کبھی سیلاب

12	וַיֹּאמֶר	אֱלֹהִים	זָאת	אֹת-	הַבְּרִית	אֲשֶׁר-	אָנִי	נָתַן	בִּינִי	וּבֵינֵיכֶם
	اور-کہا	خدا-نے	یہ	نشانی	عہد-کی	جو	میں	دیتا-ہوں	میرے-درمیان	اور-تمہارے-درمیان
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H0226</a>	<a href="#">H1285</a>		<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>

اور-درمیان	ہر	جان	جاندار	جو	تمہارے-ساتھ	نسلوں-کے-لیے	بمیشہ
<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5315</a>		<a href="#">H0854</a>		<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H5769</a>

کہ یہ ہوں رہا کر قائم ساتھ کے جانداروں تمام اور تمہارے میں جو نشان کا عہد ابدی اس

13	אֶת- کو	קִשְׁתִּי قوس-قزح-اپنی	נִתְּנִי رکھا-میں-نے	בְּעֵנִי بادل-میں	וְהִיְתָה اور-ہو-گی	לְאֵזֹת نشانی-کے-لیے	בְּרִית عہد	בֵּינִי میرے-درمیان	וּבֵין اور-درمیان
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6051</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0226</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>

הָאָרֶץ:  
زمین-کے  
[H0776](#)

گا۔ ہو نشان کا عہد ساتھ کے دنیا میرے وہ ہوں۔ رکھتا میں بادلوں کمان اپنی میں

14	וְהָיָה اور-ہو-گا	בְּעֵנֵי جب-لاؤں-گا-میں	עָנָן بادل	עַל- پر	הָאָרֶץ زمین	וְנִרְאָתָה اور-دکھائی-دے-گی	הַקִּשְׁת قوس-قزح	בְּעֵנֵי: بادل-میں
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6051</a>	<a href="#">H6051</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H6051</a>	

گی آئے نظر سے میں اُن قزح قوس اور گے جائیں چھا بادل پر آسمان پر کہنے میرے کبھی جب

15	וּזְכַרְתִּי اور-یاد-کروں-گا	אֶת- کو	בְּרִיתִי عہد-اپنے	אֲשֶׁר جو	בֵּינִי میرے-درمیان	וּבֵינֵיכֶם اور-تمہارے-درمیان	וּבֵין اور-درمیان	כָּל- ہر	נֶפֶשׁ جان	חַיָּה جاندار
	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5315</a>	

בְּכָל- سب-میں	בָּשָׂר جسم	וְלֹא- اور-نہیں	יְהִיָּה ہوں-گے	עוֹד بھر	הַנְּיֹמִם پانی	לְמַבּוּל طوفان-کے-لیے	לְשֹׁחַת تباہ-کرنے-کو	כָּל- سب	בָּשָׂר: جسم
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3999</a>	<a href="#">H7843</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1320</a>

دے۔ کر بلاک کو زندگی تمام جو گا آئے نہیں سیلاب ایسا بھی کبھی اب ہے۔ گیا کیا ساتھ کے جانداروں تمام اور تمہارے جو گا کروں یاد عہد یہ میں تو

16	וְהִיְתָה اور-ہو-گی	הַקִּשְׁת قوس-قزح	בְּעֵנֵי بادل-میں	וְרִאִיתֶיהָ اور-دیکھوں-گا-اُسے	לְזִכְרֹךָ یاد-کرنے-کو	בְּרִית عہد	עוֹלָם بمیشہ-کا	בֵּין درمیان	אֱלֹהִים خدا
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H6051</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0430</a>

וּבֵין اور-درمیان	כָּל- ہر	נֶפֶשׁ جان	חַיָּה جاندار	בְּכָל- سب-میں	בָּשָׂר جسم	אֲשֶׁר جو	עַל- پر	הָאָרֶץ: زمین
<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H0776</a>		

ہے۔ درمیان کے مخلوقات جاندار تمام کی دنیا اور میرے جو گا کروں یاد کو عہد دائمی اُس کر دیکھ اُسے میں تو گی آئے نظر قزح قوس

17	וַיֹּאמֶר اور-کہا	אֱלֹהִים خدا-نے	אֶל- سے	נֹחַ نوح	זֶאת یہ	אֹת- نشانی	הַבְּרִית عہد-کی	אֲשֶׁר جو	קָיָם-کیا-میں-نے	בֵּינִי میرے-درمیان	וּבֵין اور-درمیان
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5146</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H0226</a>	<a href="#">H1285</a>		<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>

כָּל- ہر	בָּשָׂר جسم	אֲשֶׁר جو	עַל- پر	הָאָרֶץ: زمین	פ
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1320</a>			<a href="#">H0776</a>	

ہے۔ کیا ساتھ کے جانداروں تمام کے دنیا نے میں جو بے نشان کا عہد اُس یہ

18	וַיְהִי اور-تھے	בְּנֵי- بیٹے	נֹחַ- نوح-کے	הַיִּצְחָאִים نکلنے-والے	מִן- سے	הַתְּבָה کشتی	שָׁם سام	וְחָם اور-حام	וְיָפֶת اور-یافت	וְחָם اور-حام	הוּא وہ	אָבִי باپ
	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H5146</a>	<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H8392</a>	<a href="#">H8035</a>	<a href="#">H2526</a>	<a href="#">H3315</a>	<a href="#">H2526</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0001</a>

בְּעֵנֵי:  
کنعان-کا

تھا۔ باپ کا کنعان حام تھے۔ یافت اور حام سیم، نکلے سے کشتی ساتھ کے اُس بیٹے جو کے نوح

19	שְׁלֹשָׁה تین	אֶלֶּה یہ	בְּנֵי- بیٹے	נֹחַ- نوح-کے	וּמֵאֶלֶּה اور-ان-سے	נִפְצָה بھیل-گئی	כָּל- ساری	הָאָרֶץ: زمین
	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H0428</a>		<a href="#">H5146</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0776</a>	

ہیں۔ اولاد کی تینوں ان لوگ تمام کے بھر دنیا

20	וַיִּחַל	זָח	אִישׁ	הָאֲדָמָה	וַיִּטֵּעַ	קָרָם:
	اور-شروع-کیا	نوح-نے	آدمی	زمین-کا	اور-لگایا	انگور-کا-باغ
	<a href="#">H5146</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0127</a>	<a href="#">H5193</a>	<a href="#">H3754</a>	

لگایا۔ باغ کا انگور نے اُس میں شروع تھا۔ کسان نوح

21	וַיֵּשֶׁתְּ	מִן־	הַיִּין	וַיִּשְׁכַּר	וַיִּתְּנָלָ	בְּתוֹדָ	אֶהְלֵה:
	اور-پیا	سے	مے	اور-نشے-میں-آیا	اور-تنگا-ہوا	بیچ-میں	خیمے-اپنے
	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H7937</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0168</a>	

رہا۔ پڑا ننگا میں ڈیرے اپنے ڈھت میں نشے وہ کہ لی پی اتنی نے اُس کر بنا مے سے انگور

22	וַיֵּרָא	חָם	אָבִי	כְנָעַן	אֶת	עֲרֹנָת	אָבִיו	וַיִּגְדַּ	לְשָׁנָיִ	אָחִיו	בְּחֹזֶץ:
	اور-دیکھا	حام-نے	باپ	کنعان-کے	کو	برہنگی	باپ-اپنے-کی	اور-بتایا	دو	بھائیوں-اپنے	باہر
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2526</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H2351</a>	

بتایا۔ میں بارے کے اُس کو بھائیوں دونوں اپنے کر جا باہر تو دیکھا ہوا پڑا یوں اُسے نے حام باپ کے کنعان

23	וַיִּקַּח	שָׁם	וַיִּפֶּת	אֶת־	הַשְּׂמֹלָה	וַיִּשְׂמֹנֶ	עַל־	נַפְשׁוֹ	וַיִּלְכֹּד	שְׁנֵיהֶם	וַיִּלְכֹּד
	اور-لیا	سام-نے	اور-یافت-نے	کو	چادر	اور-رکھا	پر	کندھے	دو-اپنے	اور-چلے	اور-چلے
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H8035</a>	<a href="#">H3315</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8071</a>	<a href="#">H7926</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3212</a>			

	אֶת־	עֲרֹנָת	אָבִיהֶם	וַיִּפְּנִיחֶם	אֶת־	אֶת־	וַיִּפְּנִיחֶם	אֶת־	וַיִּפְּנִיחֶם	אֶת־	וַיִּפְּנִיחֶם
	کو	برہنگی	باپ-اپنے-کی	اور-چہرے-اُن-کے	بیچھے-کی-طرف	اور-برہنگی	اور-ڈھانپا	اور-ڈھانپا	اور-ڈھانپا	اور-ڈھانپا	اور-ڈھانپا
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0322</a>	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H0322</a>	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0322</a>	<a href="#">H6172</a>

אָבִיהֶם	לֹא	רָאוּ:
باپ-اپنے-کی	نہیں	دیکھی
<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>

طرف دوسری منہ کے اُن دیا۔ ڈال پر باپ اپنے کپڑا اور بوئے داخل میں ڈیرے بوئے چلتے اُٹے وہ پھر رکھا۔ کپڑا پر کندھوں اپنے نے یافت اور سیم کر سن یہ آئے۔ نہ نظر برہنگی کی باپ تاکہ رہے مڑے

24	וַיִּיקַץ	זָח	מִיִּינוֹ	וַיִּדַע	אֶת	אֲשֶׁר־	עָשָׂה־	לוֹ	בְּנֹ	הַקָּטָן:
	اور-جاگا	نوح	مے-سے-اپنی	اور-جانا	کو	جو	کیا-تھا	اُس-سے	بیٹے-اُس-کے	چھوٹے-نے
	<a href="#">H3364</a>	<a href="#">H5146</a>	<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H0853</a>					

ہے۔ کیا کیا نے بیٹے چھوٹے سے سب کہ چلا پتا کو اُس تو آیا میں ہوش نوح جب

25	וַיֵּאמֶר	אֲרוּר	כְנָעַן	עַבְדִּי	עַבְדִּים	יְהוָה	לְאָחִיו:
	اور-کہا	ملعون	کنعان	غلام	غلاموں-کا	بو-گا	بھائیوں-اپنے-کا
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0779</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0251</a>	

گا۔ بو غلام ترین ذلیل کا بھائیوں اپنے وہ لعنت! پر کنعان کہا، نے اُس

26	וַיֵּאמֶר	בְּרוּךְ	יְהוָה	אֱלֹהֵי	שָׁם	וַיְהִי	כְנָעַן	עַבְדִּי	לָמוֹ:
	اور-کہا	مبارک	یہوواہ	خدا	سام-کا	اور-بو	کنعان	غلام	اُن-کا
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8035</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H3926</a>	

ہو۔ غلام کا سیم کنعان ہے۔ خدا کا سیم جو رب ہو مبارک

27	יָפֶתְ	אֱלֹהִים	לְיָפֶתְ	וַיִּשְׁכַּן	בְּאֶחָד־	וַיְהִי	שָׁם	עַבְדִּי	לָמוֹ:
	کشادہ-کرے	خدا	یافت-کو	اور-بسے	خیموں-میں	اور-بو	سام-کے	غلام	اُن-کا
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3315</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H8035</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H3926</a>	

ہو۔ غلام کا اُس کنعان اور رہے میں ڈیروں کے سیم یافت جائیں۔ بڑھ حدود کی یافت کہ کرے اللہ

